

# INDEX

## KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

EXECUTION NO \_\_\_\_\_

APPEAL NO	INSTITUTION	ORIGINAL INSTITUTION	DECISION	PAGES
379/22		07.03.2022	23.04.24	72

AMAL KHAN vs POLICE DEPARTMENT.

Sr.No.	No of Pages	Documents	Page No
Part-A			
1	01-06	Judgment	06
2	07-13	Order Sheets	07
3	14-61	Memo of Appeal	48
4	62-62	Wakalatnama	01
5	63-85	Notices	03
6	66-71	Reply	06
7	72-72	Wakalatnama	01
8	-		
9	-		
10	-		
11	-		
12	-		
Part-B			
1	-		
2	-		
3	-		

Total Pages in Part-A	0 72
Total Pages in Part-B	0

*[Signature]*  
Muharrir & Compilation 27/7/24

*[Signature]*  
Incharge Judicial Branch 5/7/24

8 7  
A

12. After examining all the relevant record of the B. Tech (Hons) Degree Holder Sub Engineers, the committee unanimously recommended the following (02) eligible B. Tech (Hons) Sub Engineers to the post of Assistant Engineer/Sub Divisional Officer (BS-17) in Irrigation Department on regular basis:-

- i. **Mr. Khurshid Ahmad.**
- ii. **Mr. Muhammad Shoab.**

**Item No. VI**

13. The Additional Secretary Irrigation Department presented the agenda that (01) No. regular post of Administrative Officer (BS-17) is lying vacant due to creation in the Office of Chief Engineer, newly Merged Areas Irrigation Department which is required to be filled in by promotion on the basis of seniority-cum-fitness from amongst the Superintendents of the Department having at least three years service.

14. After examining all the relevant record of the Superintendents (BS-17), the committee unanimously recommended **Mr. Akhtar Nawaz, Superintendent (BS-17)** to the post of **Administrative Officer (BS-17)** in Irrigation Department on regular basis.


**Item No. VII**

15. The Chief Engineer (South) Irrigation Department presented the agenda that (01) No. regular post of Superintendent (BS-17) is lying vacant in the office of Superintending Engineer, Irrigation Circle, D.I. Khan (Circle Cadre) which is required to be filled in by promotion on the basis of seniority-cum-fitness from amongst the Assistants and Senior Scale Stenographers with at least five years service as such.


16. After examining all the relevant record of the Assistants/Senior Scale Stenographers (BS-16), the committee unanimously recommended **Mr. Muhammad Saleem, Assistant (BS-16)** to the post of Superintendent (BS-17) in the Circle Cadre, D.I. Khan on acting charge basis due to lack of prescribed length of 05 years service.

The meeting ended with vote of thanks from and to the chair.

  
Secretary Irrigation  
Chairman

  
Chief Engineer (South)  
Irrigation Department (Member)

  
Deputy Secretary (Reg-III)  
Establishment Department (Member)

  
Additional Secretary  
Irrigation Department  
(Secretary/Member)

  
Section Officer (SR-II)  
Finance Department (Member)

Attested  




①

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL**  
**PESHAWAR**

Service Appeal No. 379/2022

BEFORE: MRS. RASHIDA BANO ... MEMBER (J)  
MISS FAREEHA PAUL ... MEMBER (E)

Amal Khan, Constable No. 1563, Police Station City, Bannu.

...(Appellant)

**VERSUS**

1. Regional Police Officer, Bannu Region Bannu.
2. The District Police Officer Bannu.
3. The Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.

...(Respondents)

Mr. Fazal Shah Mohmand  
Advocate

...

For appellant

Mr. Muhammad Jan  
District Attorney

...

For respondents

----

Date of Institution.....07.03.2022

Date of Hearing.....23.04.2024

Date of Decision.....23.04.2024

**JUDGMENT**

**RASHIDA BANO, MEMBER (J):** The instant service appeal has been instituted under section 4 of the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal, Act 1974 with the prayer copied as below:

“On acceptance of this appeal, the impugned order dated 22.12.2021 and order dated 15.11.2021 may kindly be set aside and the appellant may kindly be ordered to be restored to the rank of Head Constable.”

R

SCANNED  
KPST  
PESHAWAR

2. Brief facts of the case, as given in the memorandum of appeal, are that appellant was enlisted as Constable in Police Department in the year 2007 and later on he was promoted to the rank of Head Constable. While posted as IHC Police Station Kakki, he registered case FIR No. 351 dated 13.09.2021 under section 9(b) CNSA against the accused Azmar Khan. After registration of FIR, a complaint was lodged by the accused against the appellant on the basis of which charge sheet along with statement of allegation was issued to him which was replied by him. Inquiry was conducted as a result to which major punishment of demotion from the rank of Head Constable to the rank of Constable vide order dated 15.11.2021 was imposed upon the appellant. Feeling aggrieved, he filed departmental appeal, which was rejected on 22.12.2021, hence the instant service appeal.

3. Respondents were put on notice, who submitted written replies/comments on the appeal. We have heard the learned counsel for the appellant as well as the learned District Attorney and perused the case file with connected documents in detail.

4. Learned counsel for appellant argued that the impugned order are illegal, unlawful, without lawful authority and void ab-initio, hence liable to be aside; that appellant has not been treated in accordance with law and rules; that proper inquiry was not conducted and no one was examined in presence of the appellant nor was any opportunity of cross examination was afforded to the appellant; that no show cause notice was issued to the appellant being mandatory under the law, that no chance of personal hearing was afforded to

him and he was condemned unheard which is against the norms of natural justice.

5. Conversely, learned District Attorney contended that the appellant has been treated in accordance with law and rules. He further contended that appellant falsely implicated accused Azmar Khan in a fake FIR. In this respect he filed complaint against him on citizen portal in which inquiry was conducted by SDPO Rural-II and the charges were proved in the preliminary inquiry on the basis of which he was awarded penalty of reduction to a lower rank in accordance with law.

6. Perusal of record reveals that the appellant was enlisted as Constable in Police Department in the year 2007 and later on he was promoted to the rank of Head Constable. While posted as IHC Police Station. Kakki, he registered case FIR No. 351 dated 13.09.2021 under section 9(b) CNSA against the accused Azmar Khan. After registration of FIR, a complaint was lodge by the accused Azmar Khan against the appellant on the basis of which charge sheet alongwith statement of allegation was issued to him which was replied by him. Inquiry was conducted as a result of which major punishment of demotion from the rank of Head Constable to the rank of Constable vide order dated 15.11.2021 was imposed upon the appellant by authority.

7. Perusal of inquiry report reveals that inquiry officer recorded statements of Constable Nadeem No. 2245, Muhammad Nazir Khan 673 who are marginal witnesses of recovery memo of the criminal case FIR No. 351 registered against complainant Azmar Khan, Umer Niaz Khan, MHC Constable Bahadur

Khan 1021 who accompanied the appellant at the time of recovery and more


importantly of the then accused now complainant Azmar Khan who filed complaint against the appellant on the basis of which inquiry was initiated against the appellant but neither opportunity of cross examination was provided to him nor statement were recorded in his presence which is essential requirements of fair trial, So, he was condemned unheard and awarded major penalty of reduction in rank.

8. It is a well settled legal proposition, that regular inquiry is must before imposition of major penalty, whereas in case of the appellant, no such inquiry was conducted. The Supreme Court of Pakistan in its judgment reported as 2008 SCMR 1369 has held that in case of imposing major penalty, the principles of natural justice required that a regular inquiry was to be conducted in the matter and opportunity of defense and personal hearing was to be provided to the civil servant proceeded against, otherwise civil servant would be condemned unheard and major penalty of dismissal from service would be imposed upon him without adopting the required mandatory procedure, resulting in manifest injustice. In absence of proper disciplinary proceedings, the appellant was condemned unheard, whereas the principle of *audi alteram partem* was always deemed to be embedded in the statute and even if there was no such express provision, it would be deemed to be one of the parts of the statute, as no adverse action can be taken against a person without providing right of hearing to him. Reliance is placed on 2010 PLD SC 483.

9. For what has been discussed above, we are unison to set aside the impugned orders and sent the matter for de-novo inquiry with direction to provide opportunity of cross examination to the appellant upon all the

witnesses and conclude the de-novo inquiry within sixty days after receipt of copy of this judgment. Costs shall follow the event. Consign.

10. \* *Pronounced in open court in Peshawar and given under our hands and seal of the Tribunal on this 23<sup>rd</sup> day of April, 2024.*


  
(Farzeha Paul)  
Member (E)


  
(Rashida Bano)  
Member (J)

\*Kaleemullah

**ORDER**  
23.04.2024

1. Learned counsel for the appellant present. Mr. Muhammad Jan learned District Attorney for the respondents present.
2. Vide our detailed judgment of today placed on file, we are unison to set aside the impugned orders and sent the matter for de-novo inquiry with direction to provide opportunity of cross examination to the appellant upon all the witnesses and conclude the de-novo inquiry within sixty days after receipt of copy of this judgment. Costs shall follow the event. Consign.
3. *Pronounced in open court in Peshawar and given under our hands and seal of the Tribunal on this 23<sup>rd</sup> day of April, 2024.*

  
(Fareeha Paul)  
Member (E)


  
(Rashida Bano)  
Member (J)




24.01.2024

Learned counsel for the appellant present. Mr. Asad Ali Khan, Assistant Advocate General for the respondents present.

On 26.07.2023, learned District Attorney had himself taken adjournment for the purpose of placing on file of the inquiry report and the case was adjourned for 03.10.2023. The inquiry report has not been submitted and even representative of the respondents has not bothered to appear before the Tribunal today. In such a situation, the appeal could not be proceeded with due to lethargic conduct of the respondents. Salaries of respondents No. 1 & 2 are attached in the manner prescribed in Section 260(1)(i) of the Code of Civil Procedure, 1908, till further order. Registrar of this Tribunal shall send copy of this order to Accountant General Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar as well as District Accounts Officer Bannu for compliance. District Police Officer Bannu (Respondent No. 2) shall himself produce the entire inquiry record on the next date and to come up for arguments on 23.04.2024 before the D.B. Parcha Peshi given to the parties.

  
(Fareeha Paul)  
Member (E)

  
(Salah-ud-Din)  
Member (J)

SCANNED  
BY  
Peshawar

3<sup>rd</sup> Oct. 2023

1. Learned counsel for the appellant present. Mr. Asad Ali Khan, Assistant Advocate General for the respondents present.

2. Learned counsel for the appellant seeks adjournment to prepare the brief. Adjourned but as a last chance. To come up for arguments on 24.01.2024 before D.B. P.P given to the parties.

SCANNED  
KABUL  
Peshawar

(Muhammad Akbar Khan)  
Member (E)

(Kalim Arshad Khan)  
Chairman

\*Adnan Shah\*

19


10.05.2023


Appellant in person present.

Asad Ali Khan, Assistant Advocate General for the respondents present.

Appellant requested for adjournment on the ground that his counsel has been appointed as Additional Advocate General, therefore, time may be granted to him to engage another counsel.

Adjourned. To come up for arguments on 26.07.2023 before D.B. Parcha Peshi given to the parties.

  
(Muhammad Akbar Khan)  
Member (E)

  
(Rozina Rehman)  
Member (J)


\*Kamranullah\*

26<sup>th</sup> July, 2023

1. Mr. Kamran Khan, Advocate present and submitted Wakalat Nama in favor of appellant. Mr. Fazal Shah Mohmand, Additional Advocate General for the respondents present.

2. Learned District Attorney requested for adjournment in order to place on file the inquiry report. Adjourned. To come up for arguments on 03.10.2023 before D.B.P.P given to the parties.

  
(Fareeha Paul)  
Member (E)

  
(Kalim Arshad Khan)  
Chairman

\*Mutazem Shah\*

SCANNED  
KPST  
Peshawar

SCANNED  
KPST  
Peshawar

(10)

19.12.2022

Counsel for the appellant present. Naseer Ud Din Shah learned Assistant Advocate General alongwith Yaqoob Khan H.C for respondents present.

Written reply on behalf of respondents submitted which is placed on file. A copy of the same is handed over to learned counsel for the appellant. To come up rejoinder/arguments on 20.03.2023 before D.B.

SCANNED  
KPST  
Peshawar



(Fareeha Paul)  
Member (E)



(Rozina Rehman)  
Member (J)

20.03.2023

Junior to counsel for the appellant present.

Asif Masood Ali Shah learned Deputy District Attorney for the respondents present.

SCANNED  
KPST  
Peshawar

Former made a request for adjournment as senior counsel for appellant is busy before another Bench of this Tribunal. Adjourned.

To come up for arguments on 10.05.2023 before D.B. Parcha Peshi given to the parties.



(Muhammad Akbar Khan)  
Member (E)



(Rozina Rehman)  
Member (J)

11.10.2022

Counsel for the appellant present. Mr. Muhammad Adeel Butt, Additional Advocate General for respondents present.

Written reply on behalf of respondents not submitted. Learned Additional AG seeks time to contact the respondents for submission of written reply. Adjourned. To come up for written reply/comments on 16.11.2022 before S.B.

SCANNED  
KPST  
Peshawar




(Fareeha Paul)  
Member (E)

16.11.2022

Clerk of learned counsel for the appellant present. Mr. Kabirullah Khattak, Additional Advocate General alongwith Mr. Yaqoob Khan H.C for the respondents present.

Reply/comments on behalf of respondents not submitted. Representative of the respondents requested for time to submit reply/comments on the next date. Last opportunity is granted. To come up for reply/comments on 19.12.2022 before S.B.

SCANNED  
KPST  
Peshawar



(Mian Muhammad)  
Member (E)


20.05.2022

Learned counsel for the appellant present. Preliminary arguments heard.

Learned counsel for the appellant argued that the appellant is aggrieved of the impugned order dated 15.11.2021 whereby the major penalty of demotion from the rank of Head Constable to the rank of Constable was imposed on him. The appellant preferred departmental appeal against the impugned order to respondent No. 1 which was decided on 22.12.2021 and his departmental appeal was turned down by the appellate authority. However, it is claimed in Para 6 of the service appeal that a copy of the appellate order was obtained on 09.02.2022 whereafter the instant service appeal was instituted on 07.03.2022. It was further contended that the impugned order is hit by FR-29 because no specific time for the imposed penalty of demotion has been reflected in the impugned order. As the ends of justice have not been fulfilled, the impugned order is not legal in the eyes of law because no Show Cause Notice has been issued to the appellant and no opportunity of cross examination provided to him.


Rs-500/-  
Appellant Deposited  
Security & Process Fee  
A. J. 24/5/22

Points raised need consideration. The appeal is admitted to regular hearing, subject to all just and legal objections. The appellant is directed to deposit security and process fee within 10 days. Thereafter, notices be issued to the respondents for submission of written reply/comments. To come up for reply/comments before the S.B on 25.07.2022.

  
(Mian Muhammad)  
Member(E)


25.07.2022

Junior to counsel for appellant present.

 Kabir Ullah Khattak, learned Additional Advocate General for respondents present.

Reply on behalf of respondents is still awaited. Learned AAG requested for adjournment in order to submit reply. Opportunity is granted. To come up for written reply/comments on 11.10.2022 before S.B.

SCANNED  
KPST  
Peshawar

  
(Rozina Rehman)  
Member (J)





13

Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No.- \_\_\_\_\_ 379/2022


S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	15/03/2022	<p>The appeal of Mr. Amal Khan resubmitted today by Mr. Fazal Shah Mohmand Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2-	<p>11.04.2022</p> <p><i>Hidayat Hidayat C/o Fazal Shah ASC Noted on 14/4/22</i></p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>This case is entrusted to S. Bench at Peshawar for preliminary hearing to be put there on <u>11.04.2022</u></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p> <p>No one is present on behalf of the appellant. Notice be issued to the appellant and his counsel for the date fixed. To come up for preliminary hearing before the S.B on 20.05.2022.</p> <p style="text-align: right;"> Chairman</p>

The appeal of Mr. Amal Khan, Constable No. 1563, Police Station City Bannu received today i.e. on 07.03.2022 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellatant for completion and resubmission within 15 days.

1. Index of the appeal attached with the appeal is incomplete which may be completed according to Khyber Pakhtunkhwa Service Rules, 1974.
2. Memorandum of the appeal is unsigned which may be signed by the appellatant.
3. Checklist is not attached with the appeal.
4. Appeal has not been flagged/marked with annexure marks.
5. Annexures of the appeal may be attested.
6. Affidavit attached with the appeal is not attested by the Oath Commissioner.
7. Copy of Enquiry report is not attached with the appeal which may be placed on it.
8. Application for condonation of delay attached with the appeal is unsigned.
9. Annexures D, F, H and K attached with the appeal are illegible which may be replaced by legible/better one.
10. Five more copies/sets of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.

No. 653 /S.T,


Dt. 10-3- /2022

  
 REGISTRAR  
 SERVICE TRIBUNAL  
 KHYBER PAKHTUNKHWA  
 PESHAWAR.

Mr. Fazal Shah Mohmand Adv. Pesh.

R/Siv,

Resubmitted after necessary  
 completion.

  
 15/3/22



15

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KPK PESHAWAR**

Service Appeal No 379 /2022

**SCANNED  
KPST  
Peshawar**

Amal Khan.....Appellant

**V E R S U S**

RPO and others.....Respondents

**I N D E X**

S.No	Description of Documents	Annexure	Pages
1.	Service Appeal with affidavit		1-4
2.	Application for condonation of delay with Affidavit		5
3.	Copy of FIR	A	6
4.	Copy of Complaint & Preliminary inquiry	B & C	7-10
5.	Copy of Charge Sheet & Reply	D & E	11-14
6.	Copy of Order dated 15-11-2021	F	15
7.	Copy of Departmental appeal & Order dated 22-12-2021	G & H	16-18
8.	Copy of Complete Challan form, recovery memo, Site plan, application to FSL & Judgment dated 11-10-2021	I	19-26
9.	Copy of FSL report	J	27
10	Copies of documents	K	28-30
11.	Vakalat Nama		31

Dated:-04-03-2022

Through

*Amal*  
Appellant

*Fazal Shah Mohmand*

**FAZAL SHAH MOHMAND**  
ADVOCATE,  
SUPREME COURT OF PAKISTAN.

**OFFICE:-** Cantonment Plaza Flat 3/B Khyber Bazar Peshawar Cell# 0301 8804841

**Email:-** fazalshahmohmand@gmail.com

-1-16

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KPK PESHAWAR**

Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

Service Appeal No 379 /2022

Diary No. 383

Amal Khan, Constable No 1563, Police Station City, Bannu.

Dated 07/03/2022

.....Appellant

**V E R S U S**

1. Regional Police Officer, Bannu Region Bannu.
2. District Police Officer, Bannu.
3. Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

.....Respondents

**APPEAL U/S 4 OF THE KPK SERVICE TRIBUNAL ACT 1974  
AGAINST THE ORDER DATED 22-12-2021 OF  
RESPONDENT NO 1 WHEREBY DEPARTEMNTAL APPEAL  
OF THE APPELLANT FILED AGAINST THE ORDER DATED 15-  
11-2021 OF RESPONDENT NO 2 HAS BEEN  
REJECTED/TURNDOWN.**

**PRAYER:-**

On acceptance of this appeal the impugned Order dated 22-12-2021 and order dated 15-11-2021 may kindly be set aside and the appellant may kindly be ordered to be ~~restored~~ <sup>restored</sup> to the rank of H/constable with all back benefits.

**Respectfully Submitted:-**

Filed by  
Registrar  
7/3/2022

1. That the appellant was enlisted as Constable in respondent department in the year 2007 and with the passage of time was promoted to the rank of Head Constable and since enlistment the appellant performed his duties with honesty and full devotion and to the entire satisfaction of his high ups.

Re-submitted to  
and filed.  
Registrar  
15/3/2022

2. That the appellant was transferred to Police Station Kakki in the year 2016 and was then posted as IHC Police Station Kakki and the appellant registered Case FIR No 351 dated 13-09-2021 Under Section 9(b) CNSA at Police Station Kakki against accused Azmar Khan. **(Copy of FIR is enclosed as Annexure A).**

-2-17

✓ 3. That soon after the registration of FIR, the accused Azmar Khan filed complaint against the appellant on Pakistan Citizen Portal upon which preliminary inquiry was conducted by the SDPO Bannu. **(Copy of Complaint & Preliminary inquiry is enclosed as Annexure B & C).**

✓ 4. That there after Charge Sheet with Summary of Allegations was issued to the appellant on the allegations of registering fake/bogus FIR which the appellant replied in detail refuting the allegations and bringing the true facts on record. **(Copy of Charge Sheet & Reply is enclosed as Annexure D & E).**

✓ 5. That an illegal inquiry was conducted in violation of law and rules on the subject, on the basis of which the appellant was awarded the punishment of demotion from the rank of Head Constable to the rank of Constable vide Order dated 15-11-2021. **(Copy of Order dated 15-11-2021 is enclosed as Annexure F).**

✓ 6. That the appellant filed departmental appeal before respondent No 1 which was turned down vide Order dated 22-12-2021, however copy of which was not communicated to the appellant and the appellant obtained copy of the same on 09.02.2022 the appellant even again approached respondent No 2. **(Copy of Departmental appeal & Order dated 22-12-2021 is enclosed as Annexure G & H).**

7. That the impugned Orders dated 15-11-2021 and order dated 22-12-2021 are against the law, facts and principles of justice on grounds inter-alia as follows:-

**GROUNDS:-**

A. That the impugned Orders are illegal, unlawful, without lawful authority and void ab-initio.

B. That mandatory provisions of law and rules have been badly violated by the respondents and the appellant has not been treated according to law and rules in violation of Article 4 and 25 of the Constitution.

C. That no proper inquiry was conducted, no one was examined in presence of the appellant nor was any opportunity of cross examination afforded to the appellant.

-3-18

- D. That no Show Cause Notice was issued to the appellant being mandatory under the law.
- E. That the impugned order is in violation of FR 29 as no period has been specified and the impugned order is as such in total disregard of the law on the subject.
- F. That the appellant never registered fake/bogus case against the said accused rather after recovery of contraband the case was lodged, as there no ill will or previous acquaintance of the appellant with the said accused.
- G. That the appellant only registered the case which was further handed over to the investigating officer for investigation and even challan was submitted by the SHO concerned, in these circumstances how the appellant could be held responsible.
- H. That the contraband was recovered vide recovery memo of even date site plan was prepared and the contraband was also sent to FSL on the very day but even then if FSL report is missing the same fault cannot be attributed to the appellant hence too the impugned orders are liable to be set at naught. **(Copy of Complete Challan form, recovery memo, Site plan, application to FSL & Judgment dated 11-10-2021 is enclosed as Annexure I).**
- I. That the FSL report was later on received which is in positive however the same was received after complete challan was submitted. **(Copy of FSL report is enclosed as Annexure J).**
- J. That even the appellant was selected for Intermediate colleagues rather juniors to him have joined the same course while the appellant was not allowed to join the same, thus causing irreparable loss to the appellant. **(Copies of documents are enclosed as Annexure K).**
- K. That the appellant was not afforded opportunity of personal hearing.
- L. That since illegal termination from service, the appellant is jobless.

19  
-4-

M. That the appellant seeks the permission of this honorable tribunal for further/additional grounds at the time of arguments.

It is therefore prayed that appeal of the appellant may kindly be accepted as prayed for in the heading of the appeal.

Any other relief deemed appropriate and not specifically asked for, may also be granted in favor of the appellant.

Dated: 04-03-2022

*Amal*  
Appellant

Through

*Amal*  
**FAZAL SHAH MOHMAND**  
ADVOCATE,  
SUPREME COURT OF PAKISTAN.

**LIST OF BOOKS**

1. Constitution 1973.
2. other books as per need

**CERTIFICATE:**


Certified that as per instructions of my client, no other Service Appeal on the same subject and between the same parties has been filed previously or concurrently before this honorable Tribunal. *Amal*

**ADVOCATE**

**AFFIDAVIT**

I, Amal Khan, Constable No 1563, Police Station City, Bannu, do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of this **Appeal** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this honorable Tribunal.

*Amal*  
**DEPONENT**



-5-

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KPK PESHAWAR**

Service Appeal No \_\_\_\_\_/2022

Amal Khan.....Appellant

**V E R S U S**

RPO and others.....Respondents

**Application for condonation of delay if any**

**Respectfully Submitted:-**

1. That the accompanying appeal is being filed today in which no date of hearing has been fixed so far.
2. That the grounds of appeal may be considered as integral Part of this application.
3. That since the impugned order is void ab-initio and even otherwise the impugn order was not communicated to the appellant in time rather the same was communicated to the appellant on ..and as such the instant appeal is well within time further more lis are to be decided on merit instead of technicalities.
4. That the law as well as the dictums of the superior Courts also favors decisions of cases on merit.

**It is therefore prayed that on acceptance of this application, the delay if any in filing of appeal may kindly be condoned.**

**Dated:-04-03-2022**


*Amal Khan*  
**Appellant**

**Through**

*Fazal Shah Mohmand*  
**FAZAL SHAH MOHMAND**  
ADVOCATE,  
SUPREME COURT OF PAKISTAN.

**AFFIDAVIT**

I, Amal Khan, Constable No 1563, Police Station City, Bannu, do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of this **Application**, are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this honorable Tribunal.



*Amal Khan*  
**DEPONENT**

# ابتدائی اطلاعی رپورٹ

# "A"

(فائل) ابتدائی اطلاع بست جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ 154 مجموعہ ضابطہ (فوجداری)

ضلع بنوں

-6-

فائل نمبر

تاریخ وقت وقوعہ 13/09/21 وقت 13:00 بجے

351

1	تاریخ وقت رپورٹ 13/09/21 وقت 13:40 بجے چاکرائی 13/09/21 وقت 13:40 بجے
2	نام سکونت اطلاع دہندہ دستاویز علی خان HC 0331-9778206
3	تفصیل کیفیت جرم (معدومہ) حال آنکہ کچھ ایسا گیا ہوتا Q.B, CNFA
4	جائے وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت یہ کھنڈہ پورہ کھکی ماڈرن نزد گھاس انڈسٹری
5	نام و سکونت ملزم از سرخان ولد گلشن خانہ زور خیال قریبی 0335-9128431
6	کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہوا ہو تو وجہ بیان کرنا گورنمنٹ سروس سٹیشن
7	تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت برسپیل ڈاک

ابتدائی اطلاع نیچے درج کردہ ایک شخص پر کسی قسم کے اسلحہ اور اسلحہ فحاشی  
معدومہ بتیاجتیب علی خان سے 13/09/21 کو 2245 سہول پولیس کو کمرہ درج ذیل سے گورنمنٹ سٹیشن  
کھانہ کی کئی اور فرسٹ میں معدومہ نفری لوگس میں دوران گزرتے ہوئے وہیں سے اسلحہ اور اسلحہ فحاشی  
جہاں کچھ زیادہ ہر شے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی لگنے پر کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور  
سے سبزی پلاگ کھنڈہ کھنڈہ میں کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور  
70 گرام انٹری دریاوت پر کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور  
تھانہ یا کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور  
یا 60 گرام سے اسلحہ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور  
کو کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور  
کاشی اسلحہ در دست کیشیل بریم 2245 اور اسلحہ سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اسلحہ  
اور درج ہوا ہر قدر کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور  
برسپیل سے اسلحہ پر چھ کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور  
تہاں سے اسلحہ پر چھ کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور

MHC/kakizi  
13-09-21

**ATTESTED**  
04 NOV 2021  
Copying Agency  
Lower Courts Barnu

## ابتدائی اطلاعی رپورٹ

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ 154 مجموعہ ضابطہ فوجداری

ضلع: بنوں

تھانہ: لکی

وقت 13:00 بجے

تاریخ: 13/09/2021

علت: 351

1	تاریخ و وقت رپورٹ: 13/09/2021 وقت 13:10 بجے	چاکیڈگی 13/09/2021 وقت 13:40 بجے
2	نام و سکونت اطلاع دہندہ مستغیث	عمل خان HC
3	مختصر کیفیت جرم (معد دفعہ) اگر کچھ لیا گیا ہو۔	9(B) CNSA
4	جائے وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت	پنٹہ روڈ لکی بازار نزد گھاس منڈی
5	نام و سکونت ملزم	ازمرخان ولد گلنو ازسکنہ ذبہ خیل خو جڑی
6	کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہوا ہو تو وجہ بیان کرو	برسیدگی مراسلہ پر چہ دیا گیا
7	تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت	بہ سبیل ڈاک

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو۔

ایک تحریری مراسلہ بغرض قائمی مقدمہ منجانب عمل خان HC بدست کانسٹیبل ندیم 2245 موصول ہو کر درج ذیل ہے: آفیسر انچارج تھانہ لکی امروز میں معہ نفری پولیس دوران گشت جب جائے وقوعہ بالا پر پہنچا تو ایک شخص مشتبہ جان کر بناء برشک جامہ تلاشی لینے پر شخص مذکورہ کے قمیص زیب تن کے دائیں سائید والی جیب سے سفید پلاسٹک لفافہ میں چرس برآمد ہو کر جو بر موقع بذریعہ ڈیجیٹل ترازو تولے جا کر 70 گرام اتری دریافت پر شخص مذکور نے اپنا نام و پتہ ازمرخان ولد گلنو ازسکنہ ذبہ خیل خو جڑی بتلایا چرس متذکرہ بالا میں سے 10 گرام علیحدہ کر کے پارسل نمبر 1 بغرض تجزیہ FSL جبکہ بقایا 60 گرام چرس پارسل نمبر 2 سر بمہر تیار کر کے بروئے فرد قبضہ پولیس میں کی گئی ازمرخان بالا کو مرتکب جرم بالا کا پا کر حسب ضابطہ گرفتار کر کے کارڈ گرفتاری جاری کیا، مراسلہ بغرض قائمی مقدمہ بدست کانسٹیبل ندیم 2245 ارسال تھانہ ہے، تفتیش کی جاوے، حلیہ ملزم گندمی کالا رنگ --- بدن برابر قد بھر قریب 38/40 سال دستخط انگریزی عمل خان HC تھانہ لکی 13/09/2021 کارروائی تھانہ برسیدگی مراسلہ پر چہ بجرم بالا چاک کر کے نقول FIR بغرض تفتیش حوالہ BBI شاف کئے جاتے ہیں، پرچہ گزارش ہے

دستخط انگریزی

MHC/Kakki

13/09/2021

ATTESTED  
to be true copy  
Advocate



22-7-

"B"

# Prime Minister's Performance Delivery Unit (PMDU)

## Pakistan Citizen's Portal (PCP)

District Police Office, Bannu Khyber Pakhtunkhwa

KP130921-89054743 (AB)



13/09/2021

### A. Complaint Details

170/R-II  
16/09/2021

DATE OF COMPLAINT	13/09/2021	CURRENT STATUS	In Progress (since 1 Days, 0 months, 0 years)
COMPLAINT CATEGORY/ LEVEL 1:	Law & Order	COMPLAINT SUB- CATEGORY/ LEVEL 2:	Police (General Complaint)
LOCATION OF COMPLAINT:	Bannu (Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan)	COMPLAINT ADDRESS:	تسیم اکبر شاہ شیخان بنوں
GPS ADDRESS:	Hidden by citizen	CITIZEN PROFILE	Hidden by Citizen
COMPLAINT SUBJECT	پولیس کا بے جا تنگ کرنا		

### Contents

سلام سز کمپلینٹ برائے ضلع بنوں تھانہ ککی HC عمل خان بے جا لوگوں کو تنگ کرتا ہے میرا ایک دوست ہے ازمر خان ولد گلنواز خان زہ خیل خوچڑی اسکو کئی دن سے بے جا تنگ کرتا تھا SHO غفار علی خان کو ہم نے کمپلینٹ بھی کی تھی لیکن رزلٹ 0 پھر اچ HC عمل خان نے ایسے گھر سے اٹھا کر تھانے لے گیا اب 60 گرام چرس کا پرچہ دیا ہے مہربانی کر کے اسکو تبدیل یا پولیس ڈیپارٹمنٹ سے ختم کیا جائے ازمر خان کے بارے میں آپ اسکے گاؤں میں جا کے بھی پوچھ سکتے ہے نہایت ہی شریف انسان ہے اور اس کے بھائی کو نیگار نامی شخص جو پولیس ڈیپارٹمنٹ میں بطور کانسٹیبل تھا اس نے قتل کیا ہے اور عمل خان اس نگار نامی شخص کے اشارے پر سب کچھ کر رہا ہے شکریہ

### Attachment

This complaint has 1 attachment.

### B. Complaint Processing History

#	DATED	FROM	TO	STATUS	REMARKS
1	14/09/2021	IG Police, KP	DPO, Bannu	In-progress	Forwarded for necessary action please.
2	13/09/2021	Initiated	IG Police, KP	In-progress	Complaint has been assigned to IG Police, KP

DSP/Rural-II

For enquiry and report  
with in 03 days.PA-  
Call me for  
receiving from  
statements

S. M. R. II

ATTESTED

to be file copy  
ADV. 10/09/21Superintendent of Police,  
Complaint, Bannu.

14-09-2021



ایس ڈی بی اور رول سرکل-II بنوں

منجانب

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب بنوں

بجانب

08/10/2021 تاریخ 323/R-II

نمبر

کمپلیٹنس PMDU نمبرات KP170921-89074288, KP130921-89054743

عنوان

جناب عالی!

بحوالہ مشمولہ کمپلیٹنس ہائے PMDU نمبر بالا تحریر ہے کہ کمپلیٹ موصول ہوتے ہی بغرض کارروائی کی خاطر کمپلیٹ کنندہ کو آفس طلب کر کے جن کا بیان لیا جا کر ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے۔ کمپلیٹ کنندہ نے اپنے بیان میں تحریر کیا کہ تقریباً 5/6 ستمبر دن تھا کہ اپنے گاؤں ذبہ خیل خوشی میں زمین پر پانی لگا رہا تھا کہ اچانک عمل خان HC متعینہ تھانہ لگی موٹر سائیکل آیا اور موٹر سائیکل کھڑا کیا مجھے کہا کہ ادھر آ جاؤ میں نے عمل خان HC کو کہا کہ کچھ سے گندا ہوں اور کام کر رہا ہوں اگر آپ کا کوئی ضروری بات ہو تو آپ آجائے اس وجہ سے ہمارے درمیان توں توں میں ہوا اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد مجھے لگی آڈے میں کھڑا کیا اور ہماری جامہ تلاشی لی تلاشی لینے کے بعد فوراً مجھے کہا کہ موہاں گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے گاڑی میں بیٹھا کر تھانے لے گیا صبح 8 بجے سے شام تک مجھے حوالات میں بند کیا دوران بندوش مجھے بھوکا اور پایا رکھا جب مجھے پتہ چلا تو اس میں 70 گرام جس کا FIR دیا ہے تو میں رو رو کر ایک سپاہی سے آخر میں پانی مانگا اور اس نے مجھے پانی دیدیا عمل خان HC نے ہمارے ساتھ ایک ہفتے پہلے توں توں میں پر اور اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے من گھڑت اور بے بنیاد FIR دیا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جس پیتا ہوں نہ کاروبار کیا ہے اور نہ اس قسم کے دھندے میں ملوث ہوں عمل خان HC چونکہ خوشی کا رہنے والا ہے خوشی کا رہائشی ہے اور تھانہ لگی میں ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے لہذا میں افسران بالا سے استدعا کرتا ہوں کہ عمل خان HC کے خلاف محکمانہ کارروائی کر کے تھانہ لگی سے تبدیل کیا جائے۔

کمپلیٹ کنندہ ازمرخان کا بیان مارک "A" پرف قابل ملاحظہ ہے

کمپلیٹ کنندہ کے بیان پر الزام علیہ عمل خان HC متعینہ لگی کو آفس طلب کر کے جس سے بیان لیا جا کر ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے عمل خان نے اپنے بیان میں تحریر کیا کہ کمپلیٹ کنندہ نے اپنے کمپلیٹ کنندہ نے اپنے کمپلیٹ میں تحریر کیا ہے میرے خلاف من HC نے ذاتی رنجش کی بناء پر FIR راج کرانے اور کانسٹیبل نیگار کی اشارے پر سب کچھ کرنا تحریر کیا ہے جو سر اسر غلط اور بے بنیاد ہے کمپلیٹ کنندہ ازمرخان ولد گل نواز خان کے ساتھ میرا کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے البتہ ازمرخان کے قبیلے کے دو کسان مسیمان (1) زینت اللہ ولد شیرا اول (2) تعریف اللہ ولد افسرخان سکنائے ذبہ خیل خوشی جوان کے چچازاد بھائی ہیں منشیات فروشی کی مکروہ دھندہ کر رہا ہے اور ازمرخان بالا بھی ان کے گاہک کو منشیات فراہم کرنے کیلئے اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ جہاں بھی اسے گاہک ملے تو وہ انہیں دے دیتا ہے علاوہ ازیں نگار نامی کانسٹیبل کے ساتھ جس کا ان کے ساتھ قتل مقاملہ کی دشمنی ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ میرا کوئی رابطہ ہے میں نے ازمرخان بالا سے بر موقع جس برآمدگی ہے اور بند پابسل کی گئی ہے کمپلیٹ کنندہ نے پولیس کو اپنی جائز سرکاری ڈیوٹی سے باز رکھنے اور ازمرخان بالا اور ان کے چچازاد بھائیوں نے منشیات فروشی کی مکروہ دھندے میں خلل نہ ڈالنے کی وجہ سے کمپلیٹ ہائے دائرہ کئے گئے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہے FIR کاپی اور ازمرخان بالا کے چچازاد بھائیوں کے منشیات فروشی کی فہرست ہمراہ لف ہذا ہے عمل خان HC کے تحریری بیان کے ساتھ سوالنامہ ہمراہ لف ہے۔

الزام علیہ عمل خان HC کا بیان مارک "B" پرف قابل ملاحظہ ہے

اس پر من DSP/R-II نے حقائق تک رسائی کیلئے فرد گواہان (1) کانسٹیبل ندیم 2245 متعینہ تھانہ لگی (2) کانسٹیبل نذیر 673 متعینہ تھانہ لگی (3) عمر نیاز خان MHC تھانہ لگی کو آفس طلب کر کے جن کے بیانات لئے جا کر ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے۔

1- عمر نیاز خان MHC تھانہ لگی - عمر نیاز خان MHC نے اپنے بیان میں تحریر کیا کہ میں مورخہ 13/09/2021 کو تھانہ میں موجود تھا کہ کانسٹیبل ندیم 2247 مر سالہ رپورٹ تحریر کردہ عمل خان HC حوالہ کر کے جس پر مقدمہ عدلت نمبر 351 مورخہ 13/09/2021 جرم CNSA (B) 9 درج رجسٹر کر کے نقول FIR حوالہ تفتیشی سٹاف کے بعدہ ملازم ازمرولد گل نواز سکند ذبہ خیل خوشی کو عمل خان HC نے ہمراہ لاکر جامہ تلاشی لینے کے بعد حوالات میں بند کیا یہی میرا بیان ہے جو درست ہے۔

عمر نیاز خان MHC تھانہ لگی کا بیان مارک "C" پرف قابل ملاحظہ ہے

2- کانسٹیبل محمد نذیر 673 متعینہ تھانہ لگی - کانسٹیبل محمد نذیر 673 متعینہ تھانہ لگی نے اپنے بیان میں تحریر کیا کہ میں معدد گمرنی نفری پولیس بسواری گاڑی سرکاری ہمراہ انچارج عمل خان HC مورخہ 13/09/2021 کو گشت پر تھا بدوران گشت ایک شخص مسی ازمرولد گل نواز سکند ذبہ خیل خوشی کو انچارج صاحب تلاشی لے کر ہمیں حوالہ کیا کہ اس سے جس برآمدگی ہے اور اس کو گاڑی میں بٹھا کر تھانے لے گئے ہیں نے کوئی جس وغیرہ قبضہ شدہ نہیں دیکھی ہے۔ تھانہ پہنچ کر فرد متبوسگی پر مجھ سے دستخط لئے گئے ہیں میں نے فرد پر تحریر کو دیکھا نہیں ہے کیونکہ ہم دوبارہ گشت کیلئے جلدی میں تھے اور مسی ازمرولد کو بند حوالات تھانہ کیا یہی میرا بیان ہے جو درست ہے۔

محمد نذیر خان 673 متعینہ تھانہ لگی کا بیان مارک "D" پرف قابل ملاحظہ ہے

3- کانسٹیبل ندیم 2245 متعینہ تھانہ لگی - کانسٹیبل ندیم 2245 متعینہ تھانہ لگی نے اپنے بیان میں تحریر کیا کہ میں معدد دیگر نفری پولیس مورخہ 13/09/2021 کو ڈائن سرکاری انچارج عمل خان HC عمل خان کے ساتھ گشت پر موجود تھا دوران گشت ایک شخص مسی ازمرولد گل نواز سکند ذبہ خیل خوشی سے انچارج عمل خان نے تلاشی لی اور گاڑی میں بیٹھا کر تھانہ لے گئے مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس سے کوئی ممنوع شے برآمد ہوئی یا نہیں کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھا ہے تھانہ پہنچ کر مجھ سے بطور فرد گواہ دستخط لئے گئے ہیں میں نے کوئی فرد پر تحریر نہیں دیکھا کیونکہ ہم جلدی میں تھے اور دوبارہ گشت پر چلے گئے یہی میرا بیان ہے جو درست ہے۔

کانسٹیبل ندیم خان 2245 متعینہ تھانہ لگی کا بیان مارک "E" پرف قابل ملاحظہ ہے۔

ATTESTED

to be signed by

Advocate

25  
9-

حالات واقعات پیش آمدہ درجہ بالا ذکر تفصیل قابل ملاحظہ ہیں۔ مذکورہ سید کا پیشین کے خلاف لگایا گیا الزام کے متعلق انکو انری کی سی۔ دوران انکو انری جملہ پولیس آفسران کے اور خاندان کے کارپوریشن کیا گیا برطانوی ریڈر سب کچھ درست طور پر موجود پائے گئے۔ اور اس کے علاوہ فرد گواہوں کے بیانات تمبینہ کر کے پڑایا گیا۔ کہ گھنٹوں کتدہ دوران HC کے درمیان FIR کرنے سے پہلے توں میں میں ہوتی تھی۔ چونکہ مثل خان HC بنیادی طور پر جو جزی کارہنے والا ہے۔ انریاں سے رہائش ترک کر کے اب فرود گوریوں میں سکونت اختیار کیا ہے۔ فرد گواہان کے بیانات کے مطابق نہ گواہان نے دوران جائز تلاش کوئی منسوخ شے اجڑاں کیلئے نہ فرد پر دستخط کے دوران کوئی فرد کیٹایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ گھنٹوں کتدہ کے خلاف FIR ہو چکا ہے۔ جس میں گھنٹوں کتدہ ضمانت پر رہا ہو چکا ہے گھنٹوں کتدہ بے گناہی کے بارے میں عدالت فیصلہ کریگا۔

سناشات!

دوران انکو انری جملہ بیانات سے معلوم ہو رہا ہے کہ گھنٹوں کتدہ کے خلاف FIR ذاتی دلچسپی کی بنا پر کیا گیا ہے۔ چونکہ مثل خان HC بنیادی طور پر جو جزی کارہنے والا ہے اور اب ملاقات گوریوں میں رہائش اختیار کیا ہوا ہے۔ جو جزی ملاقات خاندان کے اور اختیار میں آتا ہے۔ چونکہ مذکورہ سید کا پیشین تمام لکن میں ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے۔ لہذا مذکورہ مثل خان HC کو رول سرفکس۔ اسے کسی اور سرفکس میں ٹرانسفر کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

ایس ڈی پی او ڈیول سرفکس ایسٹون

Agreed

14/10/21

R/Sir, From the enquiry of SDPO Rural II, HC Ansal Khan has been found guilty of misusing his power of authority as he registered a fake / bogus case: FIR No. 351, dated 13-9-2021, v/s 9(B) CNSA, PS Kakki with mala fide intention against an innocent person - Azmar Khan mere on his personal grudge. Now, The court has discharged him on 11.10.2021.

Hence, in the above context, it is recommended that a charge-sheet may please be issued to him for proper departmental enquiry.

Note: HC Ansal has been transferred to PS city on complaint

J. R. Khan  
Additional Superintendent  
of Police, Bahawalpur

ATTACHED

To be taken copy

13/10/21

میرزا گل خان 1563 Hc سیدہ خانہ لکھی جو الہ گھنٹ باستان سٹین لورڈ لکھی

KP170921-89074288 KP130921-89054743

کہ گھنٹ نمبرگان نے میرے خلاف گھنٹ میں ذاتی رجسٹری کی بنیاد پر رسمی  
از میر خان ولد گلنواز سنگھ زبیر منیل کو میری خلاف FIR درج کرانے اور  
پیشینکار کی اشارے پر سیدہ خانہ کو میرا تحریر کیا ہے جو کہ میرے  
اور میرے بنیاد ہے۔ از میر خان باکا لکھا کہ میرا کوئی ذاتی رجسٹری نہیں ہے

اللہ از میر خان باکا کے قبیلے کے دو کسان مسلمان (1) زینب اللہ ولد سیدہ اول  
(2) تعریف اللہ ولد آفسر خان سادات نے زبیر منیل کو میری جو انکے حجازادگان ہیں  
تیار کیا فرسٹ کی مکروہ دفعہ کرانے ہے اور از میر خان باکا بھی انکے گائیڈ  
کو پیشینکار فرایم کرنے کے لئے اسے پاس بھی رکھنا ہے تاکہ جہاں بھی اسے

گائیڈ ملے تو وہ انہیں دے دینا ہے۔ ملکہ وہ اس کے نامی کانٹیل  
تیار کر کے انکے ساتھ پیشینکار کا رجسٹری ہے۔ میرا کوئی تعلق اس سے  
اور میری ان کے ساتھ میرا کوئی رادہ نہیں ہے۔ میں نے از میر خان باکا سے بہر حقوق  
فرسٹ میرا کوئی ہے اور میرا منیل کھائی ہے۔ گھنٹ نمبرگان نے لکھی  
کو انہیں جاننے سے کارڈ لکھی ہے باز رکھنے اور از میر خان باکا اور انکے حجازادگان

کی پیشینکار کرانے کی مکروہ دفعہ میں فعل نہ ڈانے کی وجہ سے گھنٹ کارڈ  
دائریہ لکھی ہے جسے کوئی لکھا نہیں ہے۔ FIR کا نامی اور از میر خان  
باکا کی حجازادگان کو پیشینکار فرسٹ کی میرا فرسٹ کا لکھی میرا لکھا ہے۔  
میرا جہاں ہے جو در ہے۔

0331-9778206

Handwritten signature and stamp with text: Hc 14/11/22 09-07

ATTESTED  
to be true copy  
Advocate

27  
-11- "D" D

SUMMARY OF ALLEGATIONS:

I, IMRAN SHAHID, District Police Officer, Bannu as competent authority, am of the opinion that HC Amal Khan No.1563 PS City, has rendered himself liable to be proceeded against as he has committed the following misconduct within the meaning of Police Rules (As amended vide Khyber Pakhtunkhwa Gazette Notification; No.27<sup>th</sup> of August 2014).

SUMMARY OF ALLEGATIONS:

- That from the perusal of preliminary enquiry conducted by SDPO/Rural-II, Bannu vide letter No. 323/R-II, dated 08.10.2021, HC Amal Khan No.1563 while posted <sup>at</sup> PS Kakki has been found guilty of misusing his power of authority as he registered a fake/bogus case FIR No. 351, dated 13.09.2021 u/s 9(B)CNSA PS Kakki with malafide intention against an innocent person namely Azmar Khan on personal grounds.
- Such an act on his part is against service discipline and amounts to gross misconduct.

1. For the purpose of scrutinizing the conduct of the said accused with reference to the above allegations Adtl SP Bannu is appointed as Enquiry Officer.
2. The Enquiry Officer shall provide reasonable opportunity of hearing to the accused, record statements etc and findings within the targeted days after the receipt of this order.
3. The accused shall join the proceedings on the date, time and place fixed by the Enquiry Officer.

9  
(IMRAN SHAHID) PSP  
District Police officer,  
Bannu.

No. 292-93. Date 20/10/21 SRC

Copies to :-

1. The Enquiry Officer
2. The Accused Officer/Official.

Receipt  
22/10/21  
0331-9778206

ATTACHED  
10th copy  
#0950000

28

-12-

CHARGE SHEET:

I, IMRAN SHAHID, District Police Officer, Bannu, as competent authority, hereby charge you, HC Amal Khan No.1563 PS City for the purpose of departmental enquiry proceedings as follows:-

- That from the perusal of preliminary enquiry conducted by SDPO/Kurat-II, Bannu vide letter No. 323/R-II, dated 08.10.2021, you HC Amal Khan No.1563 while posted to PS Kakki have been found guilty of misusing your power of authority as you registered a fake/bogus case FIR No. 951, dated 13.09.2021 u/s 9(B)CN5A PS Kakki with malafide intention against an innocent person namely Azhar Khan on personal grounds.
- Such an act on your part is against service discipline and amounts to gross misconduct.


1. By reason of the above you appear to be guilty of misconduct under the Police Rules 1975 (As amended vide Khyber Pakhtunkhwa gazette Notification No.27<sup>th</sup> of August 2014) and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in the said rules.

2. You are therefore, directed to submit your defense within 07 days of the receipt of this Charge Sheet to the enquiry officer.

3. Your written defense, if any, should reach to the Enquiry Officer within the specified period, failing which, it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case ex-parte action shall be taken against you.

4. You are directed to intimate whether you desire to be heard in person.

5. A statement of allegation is enclosed.

  
(IMRAN SHAHID, PSP  
District Police officer,  
Bannu.

ATTESTED

to be filed copy  
Amal Khan

خوالہ مشمولہ چارج شیٹ نمبر NIL مورخہ NIL مجاریہ جناب DPO صاحب بنوں معروض خدمت ہوں۔ کہ من IHC عمل خان پر الزام ہے کہ آپ HC جو کہ تھانہ لکی میں تعینات تھے کے خلاف SDPO/Rural- II بنوں کی بخوالہ preliminary enquiry لیٹر نمبر II-323/R مورخہ 08/10/2021 میں اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے بے گناہ شخص مسمی آزمر علی خان کے خلاف مقدمہ علت 351 مورخہ 13/09/2021 جرم CNSA(B)9 تھانہ لکی ذاتی عناد کی بنیاد پر درج رجسٹر کر کے پایا گیا ہے۔

2- آپ کی طرف سے اس طرح کا عمل خدمت کے نظم و ضبط کے خلاف ہے۔ جو کہ بالکل غلط اقدام ہے۔

جناب عالی!

عائد شدہ الزام برائے مواد بانہ / ماتحتانہ جواباً معروض ہوں

یہ کہ من HC سال 2007 کا بھرتی شدہ ہوں۔ یہ کہ من سائل بطور کنسٹیبل ایٹ فورس میں تقریباً سال 09-2008 سے لیکر سال 2017 تک خیر پختہ بخوالہ کے مختلف اضلاع میں ڈیوٹی نہایت ہی خوش اخلاقی، جانفشانی اور پوری ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی سرانجام دی ہے۔ یہ کہ بطور ہیڈ کنسٹیبل پروموٹ ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس بنوں میں ٹرانسفر ہو کر یہاں ضلع میں مختلف تھانہ جات میں ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ یہ کہ تقریباً 4/5 ماہ ہوتے ہیں کہ بطور IHC تھانہ لکی میں محکم آفران بالا ٹرانسفر ہوا ہوں۔

یہ کہ من سائل پر کمپلینٹس PMDU نمبرات KP170921-89074288، KP130921-89054743 جو الزامات

عائد شدہ ہے۔ اسکی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من سائل نے اپنی اختیارات غلط استعمال نہ کیا ہے۔ اور نہ ہی اس کے متعلق سوچ سکتا ہوں۔ جو FIR من سائل نے مذکورہ آزمر علی کے خلاف درج رجسٹر کیا ہے۔ وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تفتیشی آفسر عبداللہ خان نے بعد مقدمہ رجسٹریشن FIR جو تفتیش عمل میں لائی ہے۔ انکی تمام کی ضمنی رپورٹ بطور وجہ ثبوت ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے۔ تفتیشی آفسر عبداللہ خان موقع آ کر تمام حالات و واقعات تحریر کر کے گواہان و ملزم کے بیانات قلمبند کئے گئے ہیں۔ چالان بر خلاف ملزم جناب SHO صاحب نے تفتیشی آفسر کی ہوئی تفتیش کے ساتھ متفق ہو کر چالان مکمل دیا ہے۔ اگر ملزم بے گناہ ہوتا تو تفتیشی آفسر نے چالان فارم مکمل زبردفعہ 173 ضف میں بے گناہ تحریر کر کے چالان کے خانہ نمبر 2 میں درج کرتے۔ جسکی بے گناہی تفتیشی آفسر کی ہوئی تفتیش سے ثابت نہیں ہوا ہے۔

نذیر یہ کہ جو پارسل جناب تفتیشی آفسر نے FSL کو بغرض تجزیہ ارسال کیا تھا۔ اسکی رزلٹ نمبری 30305 مورخہ

30/09/2021 مورخہ 04/10/2021 کو موصول ہوا ہے۔ جسکی نقل بطور وجہ ثبوت ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے۔

یہ کہ فرد گواہان مسیان ندیم نمبر 2245، کنسٹیبل محمد نذیر نمبر 673 نے جو بیانات تفتیشی آفسر کو بدوران ملاحظہ موقع دیئے گئے ہیں۔ لف قابل ملاحظہ ہے۔ جس نے تحریر کیا کہ ہم عمل خان HC کے ساتھ موقع پر موجود تھے کہ عمل خان HC نے ملزم آزمر خان کے قبضہ سے

ATTESTED

to be true copy



منگ لفافہ میں چرس برآمد کر کے جو وزن کرنے پر 70 گرام اتری۔ چرس کو بند پارسل 1, 2 سر بمہر تیار کر کے بروئے فرد قبضہ پولیس کی گرد پر میرا دستخط ثبت ہے جو کہ درست ہے۔ جن کے بیانات ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے۔ علاوہ ازیں یہ ضروری نہیں کہ جس کسی کیساتھ نشہ برآمد ہو جائے وہ نشہ کا عادی یا فروختگی کا داہندہ کرتا ہوگا۔ بلکہ کسی اور کیلئے بھی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ ہر مجرم جرم کرنے کے بعد خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی خدو رجبہ کوشش کرتا ہے۔ اور اپنی جرم سے لاعلمی کا اظہار کرتا ہے۔ مذید یہ کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے خلاف لب کشائی اس لئے نہیں کرتا کہ وہ اُسے مفت میں دشمنی مول لینا سمجھتے ہیں۔ ہمارا مذکورہ ملزم کے ساتھ کسی قسم کی ذاتی عناد نہیں ہے۔ اور نہ ہی مذکورہ کے خلاف ذاتی عناد کی بنیاد پر مقدمہ درج رجسٹر کیا ہے۔

میں نے ہمیشہ ہی پولیس کا نام روشن کرنے اور پولیس کا وقار بلند کرنا سوج کر ڈیوٹی نبھائی ہے۔ اور کسی سطح پر کسی بھی شخص کو پولیس کے خلاف نفرت امیز رویہ رکھنے والوں کو کسی بھی صورت میں بخشا ہے۔ پولیس کی محبت میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اور سانس کی آخری دم تک یہ محبت رہنے گی کسی کو بھی پولیس کے خلاف نفرت پھیلانے یا پولیس کو بچھا دکھانے والوں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ من ساہل نے اپنی ڈیوٹی ہمیشہ انتہائی ایمانداری کے ساتھ اپنے جان پر کھیل کر کی ہے۔ حالانکہ قانون شکن عناصر نے دوبار نارگیٹ کرنے کے باوجود ان کو اپنے مذموم مقاصد میں ناکام بنائے ہے۔ جس میں قابل ذکر حدود تھانہ دوابہ ضلع ہنگو میں شریپندوں کے ساتھ Face to face مقابلہ ہو کر تمام دہشت گردوں کو جنم واسل کئے جبکہ تھانہ دوابہ ہنگو میں وہیکل خودکش دھماکہ میں زخمی ہو کر الحمد للہ من ساہل نے پوری ایمانداری کیساتھ جان پر کھیل کر ڈیوٹی نبھائی ہے۔ اور کسی بھی سٹیج پر ڈیوٹی میں لاپرواہی، نااہلی، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کی ہے۔

مذید یہ کہ پشاور ہائی کورٹ میٹروورہ بیٹج نے وزیراعظم شکایت سیل اور وزیراعظم پورٹل کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ جس میں معزز عدالت نے فیصلہ میں حکم کیا ہے۔ کہ ایندہ وزیراعظم شکایت سیل اور پورٹل کو صوبائی حکومت کے ملازمین کے خلاف استعمال نہیں کیا جائیگا۔ تحریری فیصلہ ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے۔

جناب عالی! مسائل ایک ذمہ دار پولیس افسر ہے۔ اور ہر وقت نہایت ایمانداری اور جانفشانی سے ڈیوٹی سرانجام دی ہے۔ اور اپنی ڈیوٹی کو ہر وقت عبادت سمجھ کر نبھائی ہے۔ من ہیڈ کنسٹیبل نے کبھی بھی اپنی ڈیوٹی میں لاپرواہی، نااہلی، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ من ساہل نے جو کارروائی اور پراگرس تھانہ لکی عمل میں لائی گئی ہیں۔ اُنکی FIRs کی نقولات ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے۔ کبھی بھی اپنی اختیارات کا نہ غلط استعمال کیا گیا ہے۔ اور نہ ہی اندریں بابت کبھی سوچا ہے۔

لہذا مندرجہ بالا ماتحانہ فریاد کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خلاف چارج شیٹ بلا مذید کارروائی داخل دفتر فرمانے کی استدعا کی جاتی ہے۔ مذید حکم آفران بالا افضل ہے۔

”سائل: عمل خان ہیڈ کنسٹیبل تھانہ لکی حال تھانہ سٹی بنوں۔“

*(Signature)*

0331-9778206

ATTESTED

to the file by

*(Signature)*

PUNISHMENT ORDER

-15-31/F

This order of the undersigned will dispose of the departmental proceedings against accused Head Constable Amal Khan No.1563 PS City under Police Rule 1975 (As amended vide Govt. of Khyber Pakhtunkhwa Gazette Notification of even No: dated 27<sup>th</sup> of August 2014) by issuing charge sheet and statement of allegation to him for committing the following commissions/omissions:-

That from the perusal of preliminary enquiry conducted by SDPO/Rural-II, Bannu vide letter No. 323/R-II, dated 08.10.2021, HC Amal Khan No.1563 while posted to PS Kakki has been found guilty of misusing his power of authority as he registered a fake/bogus case FIR No. 351, dated 13.09.2021 u/s 9(B)CNSA PS Kakki with malafide intention against an innocent person namely Azmar Khan on personal grounds.

Charge sheet and statement of allegation were issued to him and Addl/SP, Bannu was appointed as Enquiry Official to hold a regular departmental enquiry under Police Rule 1975 (As amended vide Govt. of Khyber Pakhtunkhwa Gazette Notification of even No: dated 27<sup>th</sup> of August 2014). The Enquiry Officer submitted findings report vide letter No. 262/ASP, dated 05.11.2021 and reported that there are more than sufficient documentary proofs cogent circumstantial evidences, undeniable statements of ocular witnesses on this enquiry file to prove that HC Amal Khan by misusing his power of authority has intentionally lodged a fake and bogus FIR No. 351, dated 13.09.2021 u/s 9(B)CNSA in PS Kakki against an innocent person Azmar Khan and put him in the lock-up to give him unlawful and illegal physical and mental torture only to make his enemy (Nigar) happy. The above mentioned act on the part of HC Amal Khan amounts to gross misconduct and comes under the ambit of criminal case. However, keeping his pitiable family members in view, he is recommended for the punishment of his demotion from the rank of Head Constable to the rank of Constable, placed at file.

Keeping in view of the above, the undersigned meticulously perused all the relevant record and agreed with the findings of the enquiry officer. Hence, I, IMRAN SHAHID, District Police Officer, Bannu, in exercise of the power vested in me under Police Rule 1975 (As amended vide Govt. of Khyber Pakhtunkhwa Gazette Notification of even No: dated 27<sup>th</sup> of August 2014), hereby awarded him Major Punishment of "Demotion from the rank of Head Constable to the rank of Constable" with immediate effect.

OB No. 1332  
Dated: 15-11-2021

(IMRAN SHAHID) PSP  
District Police Officer,  
Bannu.

No. 8577-81 /SRC dated Bannu, the 15-11-2021.

- Copy of above for necessary action to:
1. Reader, Pay Officer, SRC, OHC
  2. Fauji Misal Clerk along with enquiry file for placing it in the Fauji Misal of the concerned official.

ATTACHED  
to be filed by

**BETTER COPY OF THE PAGE NO. 15****PUNISHMENT ORDER**

This order of the undersigned will dispose of the departmental proceedings against accused Head Constable Amal Khan No. 1563 PS City under Police Rule 1975 (As amended vide Govt. of Khyber Pakhtunkhwa Gazette Notification even No. dated 27<sup>th</sup> of August 2014) by issuing charge sheet and statement of allegation to him for committing the following commissions/omissions.

That from the perusal of preliminary enquiry conducted by SDPO/ Rural-II, Bannu vide letter No. 323/R-II, dated 08.10.2021, HC Amal Khan No. 1563 while posted to PS Kakki has been found guilty of misusing his power of authority as he registered a fake/bogus case FIR No. 351, dated 13.09.2021 u/s 9(B) CNSA PS Kakki with malafide intention against an innocent person namely Azmar Khan on personal grounds:

Charge sheet and statement of allegation were issued to him and Addl/SP, Bannu was appointed as Enquiry Officer to hold a regular departmental enquiry under Police Rule 1975 (As amended vide Govt. of Khyber Pakhtunkhwa Gazette Notification of even No. dated 27<sup>th</sup> of August 2014). The Enquiry Officer submitted findings report vide letter No. 262/ASP, dated 05.11.2021 and reported that there are more than sufficient documentary proofs cogent circumstantial evidences, undeniable statements of ocular witnesses on this enquiry file to prove that HC Amal Khan by misusing his power of authority has intentionally lodged a fake and bogus FIR No. 351, dated 13.09.2021 u/s 9(B) CNSA in PS Kakki against an innocent person Azmar Khan and put him in the lock-up to give him unlawful and illegal physical and mental torture only to make his enemy (Nigar) happy. The above mentioned act on the part of HC Amal Khan amounts to gross misconduct and comes under the ambit of criminal case. However, keeping his pitiable family members in view, he is recommended for the punishment of his demotion from the rank of Head Constable to the rank of Constable, placed at file.

Keeping in view of the above, the undersigned meticulously perused all the relevant record and agreed with the findings of the enquiry officer. Hence, I, Imran Shahid, District Police Officer, Bannu, in exercise of the power vested in me under Police Rule 1975 (As amended vide Govt. of Khyber Pakhtunkhwa Gazette Notification of even No. dated 27<sup>th</sup> of August 2014), hereby awarded him Major Punishment of "Demotion from the rank of Head Constable to the rank of Constable" with immediate effect.

Ob No. 1332

Dated: 15/11/2021

(Imran Shahid) PSP  
District Police Officer,  
Bannu.

No. 8577-81/SRC dated Bannu, the 15/11/2021

Copy of above for necessary action to:

1. Reader, Pay Officer, SRC, OHC
2. Fauji Misal Clerk along with enquiry file for placing it in the Fauji Missal of the concerned official.

ATTACHED  
TO THE FILE  
BY

بخدمت جناب ڈپٹی انسپکٹر جنرل اف پولیس بنوں ریجن بنوں۔

"5" - 16 -

رحم درخواست (Mercy Petition) ماہرٹ جناب Head Constable رینک جو بحوالہ

مضمون

O.B. NO. 1332 مورخہ 15/11/2021 محاریر جناب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب

بنوں نے ضرر کیا ہے۔

جناب عالی!

سائل آنجناب کی خدمت میں ذیل عرض رساں ہے۔

- ☆ یہ کہ سائل سال 2007ء کا بھرتی شدہ ہوں۔
- ☆ یہ کہ من سائل ایلیٹ فورس کو ایفائیڈ ہے۔ اور سال 2016 تک خیبر پختونخواہ کے مختلف اضلاع میں ڈیوٹی نہایت ہی خوش اخلاقی، جانفشانی اور پوری ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی سرانجام دی ہے۔
- ☆ یہ کہ بطور ہیڈ کنسٹیبل پر موٹ ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس بنوں میں ٹرانسفر ہو کر یہاں ضلع میں مختلف تھانہ جات میں ڈیوٹی سرانجام دی ہے۔ یہ کہ تقریباً 4/5 ماہ ہوتے ہیں کہ بطور IHC تھانہ لکھی میں حکم آفران بالا ٹرانسفر ہوا تھا۔
- ☆ یہ کہ من سائل پر کمپلینٹس PMDU نمبرات KP170921-89074288، KP130921-89054743 جو الزامات عائد شدہ ہے۔ اسکی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من سائل نے اپنی اختیارات غلط استعمال نہ کیا ہے۔ اور نہ ہی اس کے متعلق سوچ سکتا ہوں۔
- ☆ یہ کہ من سائل کے خلاف رضوان خان DSP/R صاحب کو انکو آفری آفر مقرر ہوا۔ جو کہ DSP/R صاحب نے سیاسی اثر و رسوخ کی بناء پر بغیر ثبوت کے من سائل کے خلاف یکطرفہ انکو آفری عمل میں لا کر انکو آفری رپورٹ اور میری جمع شدہ بیان مارک A پرف قابل ملاحظہ ہے۔
- ☆ یہ کہ بعدہ ایڈیشنل SP صاحب نے من سائل کے خلاف انکو آفری کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر یکطرفہ کارروائی کر کے ہیڈ کنسٹیبل کا عہدہ منصبی کی تفارش کی۔ جس پر جناب DPO صاحب نے سائل کی ہیڈ کنسٹیبل کی عہدہ ضبط کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ جو کہ انکو آفری رپورٹ اور من سائل کی جمع شدہ بیان مارک B پرف قابل ملاحظہ ہے۔
- ☆ یہ کہ من سائل نے مورخہ 30.09.2021 کو سی آزر خان نامی شخص سے چرس برآمد کر کے جس کے خلاف مقدمہ عدالت 351 مورخہ 13.09.2021 نمبر CNSA 9B تھانہ لکھی درج رجسٹر کیا ہے۔ جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تفتیشی آفسر عبداللہ خان موقع آکر تمام حالات و واقعات تحریر کر کے گواہان و ملزم کے بیانات قلمبند کئے گئے ہیں۔ چالان برخلاف ملزم جناب SHO صاحب نے تفتیشی آفسر کی کی ہوئی تفتیش کے ساتھ متفق ہو کر چالان مکمل دیا ہے۔ اگر ملزم بے گناہ ہوتا تو تفتیشی آفسر نے چالان فارم مکمل زبردفعہ 173 ضف میں بے گناہ تحریر کر کے چالان کے خانہ نمبر 2 میں درج کرتے۔ جسکی بے گناہی تفتیشی آفسر کی ہوئی تفتیش سے ثابت نہیں ہوا ہے۔ ضمنی نمبر آ، بیانات گواہان و ملزم، چالان مکمل لف مارک C پرف ہے۔
- ☆ یہ کہ جو پارسل جناب تفتیشی آفسر نے FSL کو بغرض تجزیہ ارسال کیا تھا۔ اسکی رزلٹ نمبری 30305 مورخہ 30/09/2021 موصول شدہ مارک D پرف قابل ملاحظہ ہے۔
- یہ کہ اب صاہبان سے بودومات ذیل دوبارہ ہیڈ کنسٹیبل کے عہدے پر اپیل کی جاتی ہے۔
- 1- یہ کہ انکو آفری بند میں کمپلینٹ کنندہ گان کی کوئی بیان ریکارڈ نہیں کرایا گیا ہے۔ صرف ملزم سے بیان لیا گیا ہے۔
  - 2- یہ کہ انکو آفری بند میں جناب SHO صاحب کی کوئی بیان ریکارڈ نہیں کرایا گیا ہے۔
  - 3- یہ کہ ملزم کا پہلا بیان جو DSP/R صاحب کو دیا ہے۔ اور دوسرا بیان جو ASP صاحب کو دیا ہے۔ میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔

ATTACHED

to be

یہ کہ تفتیشی آفس نے ضمنی نمبر 1 میں بر موقع آکر من سائل بمعہ تفری پولیس کو موجود پا کر اور ضمنی نمبر 1 حصہ دوم پر سلسلہ نمبر 1 پر ملزم اور مال منقولہ بر موقع IO صاحب کو والد کرنا تحریر کیا گیا ہے۔

5- یہ کہ ضمنی نمبر 1 اور IO صاحب عبداللہ خان SI کی ASP صاحب کو دی گئی بیان میں کافی تضاد ہے۔ جس سے ملزم کے ساتھ گھاٹ جوڑ صاف ظاہر ہوتا ہے۔

6- یہ کہ اگر ضمنی نمبر 1 بر موقع لکھی گئی ہے۔ تو فرد گواہان اپنے بیانات سے اور IO صاحب ضمنی نمبر 1 سے جس نے خود تحریر کیا ہے۔ منحرف کیوں ہوئے۔

7- یہ کہ تفتیشی آفس کی چار گھنٹے طویل تفتیش کے بعد ملزم کے چالان مکمل کے خانہ نمبر 2 میں کیوں نہیں ڈالا گیا۔ جسکی وضاحت من سائل نے چار شیٹ کے جواب میں بھی کی گئی ہے۔

یہ کہ ملزم فریق کافی سیاسی اثر رسوخ والے ہے۔ اور سیاسی دباؤ کے پیش نظر انکو آفری آفس نے من سائل کے خلاف انکو آفری کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر یکطرفہ کارروائی کی ہے۔

لہذا اپ صاحبان سے استدعا کی جاتی ہے۔ کہ مندرجہ بالا وجوہات کی بناء پر سائل کو دوبارہ ہیڈ کنسٹیبل کے عہدے پر بحال کرنے کے احکامات صادر فرما کر مستحکم فرماوے۔ سائل تاخیرات دعاگوں رہے گا۔

سائل: Ex ہیڈ کنسٹیبل حال کنسٹیبل عمل خان بیلٹ نمبر 1563 متعینہ تھانہ سٹی بنوں۔

"H" 35 -18-

ORDER

By this order will dispose off departmental appeal, preferred by Constable (Sr HC) Amal Khan No.1563 of District Police Bannu, wherein, he has prayed for setting aside the order of reversion from the rank of HC to Constable, issued by DPO Bannu, vide OB No.1337 dated 15.11.2021 for committing the following misconduct:-

That after preliminary inquiry conducted by SDPO/Rural-II Circle Bannu, the appellant was found guilty of misusing his power of authority by registering a fake/bogus case vide FIR No.351 dated 13.09.2021. U/s 9(B) CNSA PS Kakki with mala fide intention against an innocent person namely Azmar Khan on personal grounds.

Service record, inquiry file of the appellant and comments received from CPC Bannu were perused which depicts that the appellant was proceeded against departmentally under Police Rules 1975 (with amendments 2014) and Addl SP Bannu was appointed as enquiry officer. The E.O conducted inquiry into the allegations and submitted his findings, wherein, he concludes that "there are more than sufficient documentary proofs cogent circumstantial evidences, undeniable statements of ocular witnesses on inquiry file to prove that HC Amal Khan by misusing his power of authority has intentionally lodged a fake and bogus FIR against an innocent person namely Azmar Khan and put him into lockup to give him unlawful and illegal physical and mental torture only to make his enemy (Nigar) happy. This act of HC Amal Khan amounts to gross misconduct and comes under the ambit of criminal case. However, keeping his pitiable family members in view, the appellant is recommended for the punishment of his demotion from the rank of HC to PC". After perusal of findings of the E.O, the competent authority (DPO Bannu) awarded him the aforesaid reversion.

The appellant was heard in orderly room today on 21.12.2021 but he did not persuade the undersigned about his innocence in the subject proceedings.


Therefore I, Sajid Ali Khan, Regional Police Officer, Bannu Region Bannu, in exercise of the powers vested in me under Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 (with amendments 2014) hereby turn down his appeal and endorse the reversion order issue by DPO Bannu, being one in consonance with law.

ORDER ANNOUNCED

(SAJID ALI KHAN) PSP  
Regional Police Officer,  
Bannu Region, Bannu

No. 6031 /EC, dated Bannu the 22 /12/2021

Copy to District Police Officer, Bannu for information and no action w/r to his office letter No.8823 dated 24.11.2021 along with service roll and fauji missal for record in your office which may be acknowledged please.



SRC / EAO / P.O  
For information  
in/accan

District Police Officer  
BANNU

24/12/2021

(SAJID ALI KHAN) PSP  
Regional Police Officer,  
Bannu Region, Bannu

21/12/21

**BETTER COPY OF THE PAGE NO. 18****POLICE DEPARTMENT****BANNU REGION****ORDER**

My this order with dispose off departmental appeal, preferred by Constable (Ex-HC) Amal Khan No. 1563 of District Police Bannu, wherein, he has prayed for setting aside the order of revision from the rank of HC to Constable, issued by DPO Bannu, vide OB No. 1332 dated 15.11.2021 for committing the following misconduct.

That after preliminary inquiry conducted by SDPO/Rural-II Circle Bannu, the appellant was found guilty of misusing his power of authority by registering a fake/bogus case vide FIR No. 351 dated 13.09.2021 u/s 9(B) CNSA P.S Kakki with malafide intention against an innocent person namely Azmar Khan on personal grounds.

Service record, inquiry file of the appellant and comments received from DPO Bannu were perused which depicts that the appointment was proceeded against departmentally under Police Rules 1975 (with amendments 2014) and Addl: SP Bannu was appointed as enquiry officer. The E.O Conducted inquiry into the allegations and submitted his findings, wherein, he concluded that "here are more than sufficient documentary proofs cogent circumstantial evidences, undeniable statements of ocular witnesses on inquiry file to prove that HC Amal Khan by misusing his power of authority has intentionally lodged a fake and bogus FIR against an innocent person namely Azmar Khan and put him into lockup to give him unlawful and illegal physical and mental torture only to make his enemy (Nigar) happy. This act of HC Amal Khan amounts to gross misconduct and comes under the ambit of criminal case. However, keeping his pitiable family members in view, the appellant is recommended for the punishment of his demotion from the rank of HC to FC". After perusal of findings of the E.O, the competent authority (DPO Bannu) awarded him the aforesaid reversion.

The appellant was heard in orderly room today on 21.12.2021 but he did not persuade the undersigned about his innocence in the subject proceedings.

Therefore I, Sajjad Ali Khan, Regional Police Officer, Bannu Region Bannu, in exercise of the powers vested in me under Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 (with amendments 2014) hereby turndown his appeal and endorse the reversion order issue by DPO Bannu, being one inconsonance with law.

**ORDER ANNOUNCED**

(Sajid Ali Khan) PSP  
Regional Police Officer,  
Bannu Region, Bannu

No. 603/EC, dated Bannu the 22/12/2021

Copy to District Police Officer, Bannu for information and n/action w/r to his office letter NO. 8823 dated 24.11.2021 along with service roll and fauji missal for record in your office which may be acknowledged please.

(Sajid Ali Khan) PSP  
Regional Police Officer,  
Bannu Region, Bannu

ATTACHED  
to be filed by  
ADP






درجہ کاغذ ملن

تشریح سے پہلے

صلو مولد

351 حصہ 139/021 گنسب 9 جنوری 2021  
سلسلہ درجہ کاغذ



قسم صرف

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

فیمہ صرف (A) (4) (3)

سلسلہ درجہ کاغذ / گنسب درجہ کاغذ

شرق و جنوب میں درجہ کاغذ کے سلسلے درجہ کاغذ کاغذ  
حصہ A - حصہ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ  
حصہ A - حصہ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ  
حصہ A - حصہ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ  
حصہ A - حصہ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ  
حصہ A - حصہ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ

حصہ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ

حصہ 3 حصہ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ  
حصہ 4 حصہ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ

TESTED

04 NOV 2021

Attesting Agency Courts Bannu

حصہ A سے حصہ 4 = 43261  
حصہ A سے حصہ 3 = 43261

سلسلہ درجہ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ کاغذ

13-9/021



52-21-

سید باری

پتو نمبر 5 حیات آباد پشاور

نمبر 091-9217394

ظہور انجمن کے مکمل اہلکار 13-9-21

نقدی حالت 351 مورخہ 13-9-21

اپنے اپنے اہلکاروں کو

پارسل ہائے 3 عدویہ آئی آر ک ثابت ہیں۔

مکملہ سید باری مورخہ بدست

میراثہ کیا گیا ہے اور اس میں سے ہر ایک کو

خود بخود مل جائے گا اور اس سے

Ahmed

Silvan / K. M. M. /  
رجسٹرڈ لکچرر

13-9-21

ایس پی ایف اے ایشن ہون  
Superintendent of Police  
Investigation Bannu

ATTESTED

04 NOV 2021

Copying Agency  
Lower Courts Bannu

**ATTESTED**  
04 NOV 2021  
Copying Agency  
Lower Courts Bannu

1- Registration No: 7539  
2- Date of Presentation of Application: 11-11-2021  
3- Date of Receipt of the file: 11-11-2021  
4- Date of Preparation of copy: 11-11-2021  
5- Date of Delivery of copy: 11-11-2021  
6- No: of copies / words: 9  
7- Ordinary Fee: \_\_\_\_\_  
8- Urgent Fee: \_\_\_\_\_  
9- Total Fee: \_\_\_\_\_  
Signature of Copyist: \_\_\_\_\_




۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  
۷  
۸  
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰  
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰  
۳۱  
۳۲  
۳۳  
۳۴  
۳۵  
۳۶  
۳۷  
۳۸  
۳۹  
۴۰  
۴۱  
۴۲  
۴۳  
۴۴  
۴۵  
۴۶  
۴۷  
۴۸  
۴۹  
۵۰  
۵۱  
۵۲  
۵۳  
۵۴  
۵۵  
۵۶  
۵۷  
۵۸  
۵۹  
۶۰  
۶۱  
۶۲  
۶۳  
۶۴  
۶۵  
۶۶  
۶۷  
۶۸  
۶۹  
۷۰  
۷۱  
۷۲  
۷۳  
۷۴  
۷۵  
۷۶  
۷۷  
۷۸  
۷۹  
۸۰  
۸۱  
۸۲  
۸۳  
۸۴  
۸۵  
۸۶  
۸۷  
۸۸  
۸۹  
۹۰  
۹۱  
۹۲  
۹۳  
۹۴  
۹۵  
۹۶  
۹۷  
۹۸  
۹۹  
۱۰۰

۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  
۷  
۸  
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰  
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵  
۲۶  
۲۷  
۲۸  
۲۹  
۳۰  
۳۱  
۳۲  
۳۳  
۳۴  
۳۵  
۳۶  
۳۷  
۳۸  
۳۹  
۴۰  
۴۱  
۴۲  
۴۳  
۴۴  
۴۵  
۴۶  
۴۷  
۴۸  
۴۹  
۵۰  
۵۱  
۵۲  
۵۳  
۵۴  
۵۵  
۵۶  
۵۷  
۵۸  
۵۹  
۶۰  
۶۱  
۶۲  
۶۳  
۶۴  
۶۵  
۶۶  
۶۷  
۶۸  
۶۹  
۷۰  
۷۱  
۷۲  
۷۳  
۷۴  
۷۵  
۷۶  
۷۷  
۷۸  
۷۹  
۸۰  
۸۱  
۸۲  
۸۳  
۸۴  
۸۵  
۸۶  
۸۷  
۸۸  
۸۹  
۹۰  
۹۱  
۹۲  
۹۳  
۹۴  
۹۵  
۹۶  
۹۷  
۹۸  
۹۹  
۱۰۰

۳۱۰ - ۲۵ - ۱۰۰۰۱

Remitted to the



District Public Prosecutor,  
BANNU

۲۳/۹/۲۱

-23-84

3

THE COURT OF ASAD HAMEED KHAN  
SESSIONS JUDGE / JUDGE SPECIAL COURT  
BANNU

The State ... Vs ... Azmar Khan


FIR No.351 dated 13.09.2021 U/S 9(B) CNSA  
Police Station Kakki, Bannu

\*\*\*

7369  
2021

ORDER-01  
11.10.2021

1. Case file received from the office of District Public Prosecutor, Bannu. It be registered.
2. Mr. Latif Khan DyPP for the State present. Accused not in attendance.
3. Epitome of the prosecution case is that accused was found in possession of 70 grams of charas. Hence, the FIR.
4. After submission of challan in the instant case, case file was submitted to this court for further proceedings, but before going to proceed further in the instant case, this court perused the record in order to gather whether a substantial case exists against accused or otherwise. Needless to mention here that an application under section 4-C (ii) of the Khyber Pakhtunkhwa Prosecution Act, 2005 for discharge of the case has been moved wherein it has been stated that prosecution case is lacking direct & substantial evidence against the accused.
5. Perusal of record would reveal that contents of the FIR are completely silent so far as nature & description of the contraband are concerned. Besides, there is no denial to the fact that in cases registered under the Control of Narcotic Substances Act, it is the



Asad Hameed Khan  
Special Sessions Judge, Bannu

**ATTESTED**

04 NOV 2021

Copying Agency  
Lower Courts Bannu

FSL report, on the basis of which, an opinion can be formed as to the nature of substance to be charas or something else. However, in present case, no FSL report in respect of the substance so recovered has been brought on record. So, when FSL report is not available before the Court, it would be hard to form an opinion with exactitude that whether the substance allegedly recovered was charas or something else and it is this aspect of the case, which casts shadow of doubt qua the nature of substance, thereby convincing the Court that there would be no probability of conviction of accused even if an opportunity of production and recording of evidence is provided to the prosecution. Moreover, accused has not confessed his guilt nor there is any evidence substantiating the factum of recovery of substance coupled with its nature to be charas.

6. Admittedly, the place of alleged recovery is a thickly populated one, but not a single private person has been associated with the process of search, seizure, and arrest. Although, applicability of provisions of section 103 CrPC has been excluded by virtue of S.31 of the Act, yet it does not debar or prohibit the officer making recovery on such a place surrounded by people to associate private persons with the process of search, seizure, and arrest, so as to lend credence to the recovery.

7. Lastly, no independent evidence substantiating the recovery of charas from possession of accused has been brought

*[Handwritten Signature]*  
11/10/2021  
Asst. Sessions Judge, Bannu  
Special Sessions Judge, Bannu

**ATTESTED**

04 NOV 2021

Copying Agency  
Lower Courts Bannu


-25-56

on record during investigation nor has accused himself confessed his guilt. In the circumstances, it is held that the alleged recovery could not be proved against accused beyond shadow of doubt.

8. It has been settled by now that it is the duty of prosecution to fix responsibility upon accused beyond reasonable doubt and in case of any benefit, such must be considered in favour of accused. The culpability of accused qua his guilt cannot be based on conjectures or surmises, but through cogent & coherent evidence. This Court is empowered to evaluate the available record regarding prima facie connection of the accused. Reliance could be placed on 1998 MLD 2008 Peshawar.

9. In view of all the above facts & circumstances of the case, it is observed that there exist phenomenal discrepancies in the prosecution case, which go to the deep roots of the case, as such, there remains no probability of the conviction of accused and this court may invoke its powers under section 265-K CrPC in apt cases. Hence, the accused is hereby discharged / acquitted by exercising jurisdiction under section 265-D read with section 265-K of the Code of Criminal Procedure, 1898 from the accusations leveled against him. Accused is on bail; his bail bonds are cancelled and sureties thereof are absolved of their liabilities.

10. Case property i.e. narcotics be destroyed, but after expiry of period provided for appeal / revision.

  
Asad Noman  
Special Sessions Judge, Bannu  
10/10/2021


ATTESTED

8 NOV 2021

Copying Agency  
Lower Courts Bannu







# Forensic Science Laboratory

Police Investigation, Khyber Pakhtunkhwa

Certification Report of test or analysis by the Government Analyst  
For Narcotics & Psychotropic Substances (Form-II)  
(Admissible Evidence under Section 510 Cr. PC and sub 34/35/47 CNSA 1974)

58

1. Laboratory No. CE 02-39738-0-21 Dated 16-09-2021  
 Received ONE Sealed Parcels marked as 1  
 Bearing 3 Seals in the marks of FK  
 From FC No.1224 In case:-  
 FIR No. 351 dated 13.09.2021 U/S 98CNSA KAKKI District BANNU

2. The seals on the parcels were found intact. The seals were opened in our presence which contained.

PARCEL NO.	NET WEIGHT/VALUME OF THE SUSPECTED SAMPLES
P.NO.1:-	=10.0gms

The above articles were duly examined by the undersigned while following the Tests/ analysis protocols in line with united Nation office on Drugs and Crime (UNODC) guidelines and Scientific Working Group for the Analysis of Seized Drugs (SWGDRUG) details overleaf. The above articles were consumed during examination.

OPINION:- The Samples in question were Subjected to Physical and chemical test/analysis revealed that the sample is:-

IT WAS CHARAS IN PNO.1.

*Occ. Is Charas*

*for n/a action*

*H.C. / inv.  
04-10-2021*

GOVERNMENT ANALYST  
FOR NARCOTICS, FSL PESHAWAR  
TO GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA

No. 30305 /FSL, dated 30/09/2021 SP/INV.BANNU

The opinion of Govt Analyst for Narcotics is forwarded to the

NOTE:- This report carries ombass Mark.

Director  
Forensic Science Laboratory  
Police Investigation, Khyber Pakhtunkhwa,  
Peshawar  
Ph: 091-9217394 Fax: 091-9217251

*RECEIVED  
10/10/2021*

copy

-27-



59 "K" ~~2~~  
-28-

SIGNAL/TP MESSAGE

FROM: COMDT: PTC HANGU (.)

TO: CCPO PESH (.)  
ALL RPOs IN KP (.)  
COMDT: FRP PESH: (.)  
DIGP SPL: BRANCH, CTD/TELE & TRAFFIC PESH: (.)  
ALL DPOs IN KP (.)  
ALL SsP FRP RANGES IN KP (.)  
DIRECTOR FSL, CPC PESH: (.)  
ALL POLICE TRAINING/TRAFFIC SCHOOLS IN KP (.)

(W) POLICE PESH (.)  
ADDL: IG POLICE HQRS PESH: (.)  
DIG TRAINING PESH (.)

NO. 1977-2027 /GC, DT: 15-10-2021 (.) SUB: (.) 1<sup>ST</sup> TERM OF UPPER AND INTERMEDIATE COLLEGE COURSES-2021 (.) IN CONTINUATION TO THIS OFFICE SIGNAL NO. 1921-70/GC DATED 14-10-2021 (.) CANDIDATES SELECTED FOR THE SUBJECT NOTED ABOVE COURSES MAY PLEASE BE SENT TO PTC HANGU ON 23-10-2021 BEFORE 16:00 HRS INSTEAD OF 20-10-2021 (.) POLICE PESH: (.) ADDL: IGP/HQRS: AND DIG TRAINING KP (.) FOR INFORMATION PLEASE (.)

~~\_\_\_\_\_~~ out  
COMDT: PTC HANGU (.)

ATTACHED  
15/10/2021  
ASST. COMDT

قرارداد ذیل رسیدیں کو وصول کر کے تم کو  
 فونڈ منسٹرین کو پیش کرنا ہے۔

روز 10 سے 20 کے آپ کے ہونے چاہئے ہیں یا  
 صورت میں قراری درخواستیں آج 14 بجے تک  
 10/02

صورت میں

S.No	Name & Number	Place Of Posting
1.	HC Attaur Rahman, 304	PP Do Sarak
2.	HC Raif Ullah, 322	I/C Naka Bandi Sugar Mills
3.	HC Manzoor Ali, 733	I/C PP Shamoza
4.	HC Zahid Ullah, 1866	NC ADJ No. 5
5.	HC Siraj Khan, 425	TO Traffic Staff
6.	HC Zait Ullah, 39	-do-
7.	HC Naimat Ullah, 431	-do-
8.	HC Zaheer Ullah, 183	RPO Squad
9.	HC Mati Ullah, 188	I/C Grid Station Mandan
10.	HC Bashir Ullah Shah, BBI Staff	BBI Office
11.	HC Zahir Nawaz, 932	PS Kakki
12.	HC Amal Khan, 1630/EF/1563	PS City
13.	HC Siraj Muhammad, 702	Steno DSP Saddar Staff
14.	HC Noor Ali Jan, 1022	NC Consumer Court
15.	HC Kamran Khan, 962/EF	Elite Force
16.	HC Muhammad Kamran, 976/EF	-do-
17.	HC Allah Yar, 1642	PS Miryan
18.	HC Sher Wali, 178	PS Jani Khel
19.	HC Maqsood Khan, 428/EF	Elite Force
20.	HC Khalid Khan, 850/1852	Police Lines
21.	HC Ali Bahader, 2039	PS Saddar
22.	HC Sardar Ali, 1088/Old	North Waziristan
23.	HC Noor Muhammad, 1998	AMHC PS Utmanzai SDW
24.	HC Muhammad Shahid, 881/EF	Elite Force
25.	HC Tahir Ullah, 779	QRF Squad

*(Signature)*  
 OAS  
 15-10-02

*(Signature)*  
 D

The following Civil Constables of Bannu and Lakki Marwat Districts police are hereby selected for Intermediate College Course, commencing with effect from 23.10.2021 at Police Training College, Hangu:-

S.#	Name & No.	District
1.	HC Attaur Rahman No.304	Bannu
2.	HC Bashir Ullah Shah No.88/Inv	-do-
3.	HC Zahir Nawaz No.932	-do-
4.	HC Siraj Muhammad No.707	do
5.	HC Noor Ali Jan No.1022	do
6.	HC Kamran Khan No.962/EF	do
7.	HC M. Kamran No.976/EF	do
8.	HC Allah Yar No.1642	-do-
9.	HC Sher Wali No.178	-do-
10.	HC Maqsood Khan No.428/EF	-do-
11.	HC Khalid Khan No.1852	-do-
12.	HC Ali Bahader No.2039	-do-
13.	HC Irshad No.593	Lakki Marwat
14.	HC Waheed Ullah No.23	-do-
15.	HC Sibghat Ullah No.710	-do-
16.	HC Rizwan Ullah No.151	do
17.	HC Inam Ullah No.198	-do-

All the candidates be directed to report at PTC Hangu on 23.10.2021 before 1600 hours along with original CNIC, complete uniform kits and no corona/medical fitness certificates.

(SAJID ALI KHAN)PSP  
Regional Police Officer,  
Bannu Region, Bannu


5270-72  
No. IEC. dated Bannu the 2/10/2020

Copies for information & necessary action to:-

1. The Commandant PTC Hangu w/r to his office Signals No.1921-70/GC dated 14.10.2021 and No.1977-2027/GC dated 15.10.2021.
2. The District Police Officer, Bannu w/r to his office Memo: No.7962 dated 18.10.2021.
3. The District Police Officer, Lakki w/r to his office Memo: No.6776/EC dated 20.10.2021.

(SAJID ALI KHAN)PSP  
Regional Police Officer,  
Bannu Region, Bannu

## بعدالت للادوکلس لکھنؤ



2022ء پنجاب عمل طاب

بنام RPO و سر

عمل طاب

مورخہ  
مقدمہ  
دعویٰ  
جرم

### باعث تحریر آنگہ

مقدمہ بندرجہ عنان بالالہ میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی اوکل کاروائی متعلقہ  
آن مقام کے لیے فاضل شاہ عہدہ A&K + راجندر سنگھ

مقررہ کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز  
دیکھو، صاحب کو رضی نامہ کر... نے و تقرر ثالتہ فیصلہ برحلف دیئے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور  
بامورثت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک و روپیہ عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق  
زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری یا ایک طرفہ یا اپیل کی براندگی اور منسوخی  
نیز دائرہ کرنے اپیل گمرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ از بصورت ضرورت مقدمہ مذکور  
کے کل یا جزوی کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار  
ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو کبھی وہی جملہ مذکورہ باختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا سہائتہ  
خواہنے منظور قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ میں جو خرچہ دہر جائد التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔  
کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں گے۔ کہ پیروی  
مذکورہ کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھدیا کہ سند ہے۔

Attest

2022

ماہ

2022

المزوم

Accepted

واحد العبد

لکھنؤ

Attest  
Pabon

بمقام

66

BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL KPK PESHAWAR .

Service Appeal No. 379/2022

Amal Khan ..... (Appellant)

VERSUS

Regional Police officer Bannu etc. .... (Respondents)

INDEX

S.No.	Description of Documents	Annexure	Page
1	Para-wise Reply		1-3
2	Affidavit		4
3	Authority Letter		5

*change sheet  
Statement of alleged  
shown causes  
inquiry report.*

*[Signature]*  
Deponent



**BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL KPK PESHAWAR .****Service Appeal No. 379/2022**

Amal Khan ..... (Appellant)

**VERSUS**

Regional Police officer Bannu etc. .... (Respondents)

**PARA WISE REPLY/COMMENTS OF RESPONDENT NO.1 TO 3****Respectfully Sheweth**

The respondents respectfully submit as under:-

**PRELIMINARY OBJECTIONS.**

1. That the Appellant has got no cause of action.
2. That the Appeal is not maintainable under the law.
3. That the Appeal is barred by Law.
4. That the Appellant has not been discriminated in any way.
5. That the Appeal is bad due to mis-joinder and non-joinder of necessary parties.
6. That the Appellant has approached the Honorable Service Tribunal with unclean hands.
7. That the Appellant has got no cause of action and locus-standi to file the instant Appeal.
8. That the Appellant has been estopped by his own conduct.

**ON FACTS**

- 1) Correct to the extent that the appellant was enlisted in 2007 and promoted to the rank of HC but rest of the Para is incorrect.
- 2) Correct Hence, need no comments.
- 3) Correct the extent that the appellant falsely implicated accused Azmar Khan in a fake case vide FIR No.351 dated 13-09-2021 U/S 9(b) CNSA Police Station Kakki. In this respect he complained against the appellant on Citizen Portal in which preliminary inquiry was conducted by SDPO Rural-II and the charges were proved in preliminary enquiry.
- 4) Correct to the extent that after establishment of allegation in preliminary enquiry, charge sheet and summary of allegation was issued to the appellant and proper departmental proceedings were initiated.
- 5) Incorrect, No illegal enquiry was conducted nor any law/Rules were violated. The proceedings, Preliminary as well as departmental were carried out according to law .The charges were established in both the enquires such he was awarded major punishment.
- 6) Correct to the extent that the appellant filed departmental appeal which was rejected by the Appellate authority RPO Bannu Region Bannu vide No.6031 dated 22-12-2021. The same was handed over to the Appellant within time.
- 7) Incorrect the impugned order dated 15-11-2021 and 22-12-2021 was not against the law/Rules and facts.

**GROUNDS:**

- A. Incorrect, the impugned orders are legal, lawful and issued by the competent authority.
- B. Incorrect, the mandatory provisions of law and rules have been complied by the respondents and the appellant was treated according to law /rules and no rule of Article 4 and 25 of the Constitution of Pakistan 1973, was violated.
- C. Incorrect, proper inquiry was conducted and after establishment of charges punishment, was awarded.
- D. Pertain to record hence need no comment.
- E. Incorrect, the impugned order is not violation of FR 29 but was issued after all codal formalities according to Police Rules, 1975.
- F. Incorrect, the appellant registered fake/ bogus FIR No.351 dated 13-00-9-2021 U/S 9(b) CNSA Police Station Kakki against an innocent person Azmar khan which was proved in enquiry proceedings.
- G. Incorrect the appellant registered a fake case therefore he was responsible for his illegal act.
- H. Pertain to record hence need no comment.
- I. Pertain to record hence need no comment.
- J. Incorrect, when the appellant was under enquiry as per rules he could not be sent for intermediate college course.
- K. Incorrect, the appellant was afforded opportunity of personal hearing but he could not satisfy the authorities.
- L. Incorrect, no illegal termination order from service of the appellant was issued by the respondents. Charge sheet and statement of allegations were issued to him and Addl/SP, Bannu was appointed as Enquiry Officer to hold a regular departmental enquiry under Police Rules, 1975(as amended vide: Govt. of KP Gazette notification of even No. dated 27<sup>th</sup> of August,2014). The Enquiry Officer submitted his findings vide letter No. 262/ASP, dated 05-11-2021and reported that there was more than sufficient documentary proof, cogent circumstantial evidences, undeniable statements of ocular witnesses on file to prove that HC Amal khan by misusing his authority has intentionally lodged a fake and bogus FIR No. 351, dated 13-09-2021 U/S 9(b) CNSA in PS Kakki against an innocent person Azmar Khan and put him in Lock-up for illegal physical and mental torture only to make his enemy (Nigar) happy. The above mentioned act on part of HC Amal Khan amounts to gross misconduct and comes under the ambit of criminal liability. However, in view, he is recommended for punishment of demotion from the Rank of Head constable to the Rank of constable.
- M. The Respondent department may kindly be allowed to raise additional grounds at the time of arguments.

69

M. The Respondent department may kindly be allowed to raise additional grounds at the time of arguments.

**PRAYER:**

In view of the above replies, it is most humbly requested that Service Appeal of the Appellant may kindly be dismissed, with cost.

District Polic Officer,  
Bannu  
(Respondant No.2)

Regional Police Officer,  
Bannu Region Bannu.  
( Respondent No.1)

Provincial Police Officer ,  
Kyber Pakhtunkhwa  
Peshawar.  
( Respondent No.3)

70

**BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL KPK PESHAWAR**

**Service Appeal No. 379/2022**

**Amal Khan** ..... **(Appellant)**

**VERSUS**


**Regional Police officer Bannu etc. ....** **(Respondents)**

**AUTHORITY LETTER.**

Mr. Muhammad Farooq Khan, DSP Legalis hereby authorized to appear before The Honourable Service Tribunal Peshawar on behalf of the undersigned in the above cited Service Appeal.

He is authorized to submit and sign all documents pertaining to the present Appeal.


**District Polic Officer,  
Bannu  
(Respondant No.2)**



**Regional Police Officer,  
Bannu Region, Bannu  
(Respondant No.1)**



**Provincial Police Officer,  
Khyber Pakhtunkhwa,  
Peshawar  
(Respondant No.3)**



71

**BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL KPK PESHAWAR .**

**Service Appeal No. 379/2022**

**Amal Khan ..... (Appellant)**


**VERSUS**

**Regional Police officer Bannu etc. .... (Respondents)**


**AFFIDAVIT.**

I, Mr. Muhammad Farooq Khan, DSP Legal representative for Respondents is hereby solemnly affirm and declare that the contents of the accompanying comments submitted by me are true and correct to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed from this Honourable Tribunal.


**ATTESTED**



19 DEC 2022

  
**DEPONENT**

72 بعد الت جبا۔ اس کے لئے بیوں کے



2 منجانب Appellant  
عمل خان بنام بچوں کے

مورخہ  
مقدمہ  
دعویٰ نمبر 26/2017  
جرم

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی وکل کاروائی متعلقہ

آن مقام کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز

مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز

وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے ق تقرر ثالث و فیصلہ پر حلف دیئے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور

بصورت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک و روپیہ ارضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق

زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی

اور منسوخی نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا محتاج ہوگا۔ از بصورت ضرورت

مقدمہ مذکور کے کل یا جزوی کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے

تقرر کا اختیار ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکور با اختیارات حاصل ہوں گے

اور اس کا ساختہ پر داختم منظور و قبول ہوگا دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانہ التوائے مقدمہ ہوں گے

سبب سے وہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں گے۔

کہ پیروی مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھ دیا کہ سندر ہے۔

20

جولائی

ماہ

26

المرقوم

العبد  
واہ العبد

Acme  
Handwritten signature

علی رضا



**KHYBER PAKHTUNKHWA**  
**SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR**

All communications should be addressed to the Registrar KPK Service Tribunal and not any official by name.

No. 263-4/ST Dated 9/2 /2024

Ph:- 091-9212281  
Fax:- 091-9213262

To

1. The Accountant General,  
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. The District Accounts Officer, District Bannu.

Subject

**ORDER REGARDING ATTACHMENT OF SALARIES OF RESPONDENT NO. 01 AND 02 IN SERVICE APPEAL NO. 379/2022 TITLED AMAL KHAN -VS - THE REGIONAL POLICE OFFICER BANNU GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA & OTHERS**

Dear Sir,

I am directed to forward herewith a certified copy of order dated. 24.01.2024, passed by this Tribunal in the above mentioned service appeal wherein the court has ordered for stoppage of salary and submission of report in this regard.

You are, therefore, directed to submit the report of attachment of salary alongwith source of stoppage of salary.

Encl. As above.

**(PIR MUHAMMAD AFRIDI)**  
SUPERINTENDENT  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL,  
PESHAWAR